



کووڈ-19 کے ردعمل میں برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں مورخہ 15 جون سے مؤثر ہونے والی تبدیلیاں

برامپٹن، آن (9 جون 2020) – سٹی کے دوبارہ کھلنے اور بحالی کے منصوبے کے حصے کے طور پر، بس سروس میں بروز پیر، 15 جون سے شروع کرتے ہوئے تاحکم ثانی درج ذیل تبدیلیاں لائی جائیں گی۔

برامپٹن ٹرانزٹ کے درج ذیل روٹس 15 جون سے فعال ہوں گے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارا ٹرانزٹ سسٹم لوگوں کو شہر میں زیادہ مؤثر طور پر نقل و حمل کی سہولیات فراہم کر سکے۔ اپنے دستیاب وسائل کے ساتھ ان سروسز کو بہتر طور پر بحال کرنے کی بہترین کوششیں کی جائیں گی۔

- 501 زوم کوئین
- 502 زوم مین
- 511/511A زوم سٹیلز
- 1/1A کوئین
- 2 مین
- 3 مک لافنن
- 4/4A چنگواکوسی
- 5/5A بوویرد
- 6 جیمز پوٹر
- 7/7A کینیڈی
- 8 سنٹر
- 9 ووڈین
- 10 ساؤتھ انڈسٹریل
- 11/11A سٹیلز
- 14/14A ٹوربریم
- 15 برامیلا
- 18 ڈگزی
- 20/20A ایسٹ انڈسٹریل
- 23 سینڈل ووڈ
- 26 ماؤنٹ پلیزنٹ
- 29 ولیمز پارک وے
- 30 اینرپورٹ روڈ
- 31 مک وین
- 35 کلارک وے
- 50 گور روڈ
- 51 بیئر فورڈ
- 52 میک مرچی
- 53 رے سن
- 56 کنگ نول
- 57 چیرولیس
- 60 مسی ساگا
- 115 پیئرسن اینرپورٹ ایکسپریس

کووڈ-19 کے دوران سینئر ID اور ویٹیرن کارڈز جاری نہیں کیے جا رہے۔ ہمارے کسٹمرز تاحکم ثانی اپنے منسوخ شدہ کارڈز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔



یاددہانی کے طور پر، ٹرمینلز میں کسٹمر سروس کاؤنٹرز بند ہیں۔ برامپٹن گیٹ وے اور ڈاؤن ٹاؤن ٹرمینلز میں ٹرمینل کی عمارت کے اوقات کار صبح 6 تا رات 9 بجے تک ہوں گے۔

موجودہ طور پر چلنے والے روٹس اور ان کے شیڈول کی فہرست دیکھنے کے لیے www.bramptontransit.com ملاحظہ کریں۔

کووڈ-19 کے لیے حفاظتی اقدامات

صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی اضافہ شدہ کارروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے تمام ٹھوس سطحوں، آپریٹر کے کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو ہر 48 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ زیادہ تر بسوں کو موجودہ طور پر ہر 24 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سہولت گاہوں اور ٹرمینلز کی ٹھوس سطحوں کی صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا کام روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔

پیل پبلک ہیلتھ اور حکومت اونٹاریو کی جانب سے نقل و حمل کی عوامی سہولیات میں ماسکس پہننے کی سفارش کے بعد، برامپٹن ٹرانزٹ کے مسافروں سے پرزور سفارش کی جاتی ہے کہ وہ اس وقت بسوں اور ٹرمینلز پر نان میڈیکل ماسک پہنیں۔ برامپٹن ٹرانزٹ کے مسافروں اور آپریٹرز کے لیے 2 جون سے نان میڈیکل ماسک پہننا لازمی ہو گا، جب کرایے کی ادائیگیوں اور اگلے دروازے سے سوار ہونے کا عمل دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ مزید معلومات کے لیے، [یہاں کلک کریں](#)۔

سٹی مسافروں پر زور دیتا ہے کہ وہ ٹرمینلز اور بس اسٹاپس اور یہاں تک کہ ماسک پہننے ہوئے بھی جسمانی فاصلہ بندی پر عمل کریں۔ مسافروں کو اس بات کی بھی یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ اپنی ذاتی جراثیم کش، مثلاً ہینڈ سینیٹائزر یا وائپس اپنے ساتھ رکھیں، کثرت سے اپنے ہاتھ دھوئیں اور اپنی کہنی میں کھانسیں یا چھینکیں۔

کووڈ-19 کے دوران خطرے پر گہری نظر رکھنے کے لیے سٹی آف برامپٹن پیل پبلک ہیلتھ اور برامپٹن ایمرجنسی منیجمنٹ آفس کے ساتھ قریبی طور پر اور مل جل کر کام کر رہا ہے۔ باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے www.brampton.ca/covid19 ملاحظہ کریں اور سروس اپ ڈیٹس کے لیے www.bramptontransit.com پر جائیں یا Twitter پر [@bramptontransit](https://twitter.com/bramptontransit) کو فالو کریں۔ کسی قسم کے سوالات برامپٹن ٹرانزٹ کے کنٹیکٹ سنٹر سے 905.874.2999 پر پوچھے جا سکتے ہیں۔

30--

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca